

# Zec

## Chapter 2

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	נֶאֱשָׂא	עֵינַי	נֶאֱרָא	וְהִנֵּה	אִישׁ	וּבְיָדוֹ	קָבַל	מִדָּה:
	اور-میں-نے-اُٹھائی	اپنی-آنکھیں	اور-دیکھا	اور-دیکھو-	ایک-آدمی	اور-اُس-کے-ہاتھ-میں	رسی	ناپنے-کی
	<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3027</a>		

تھا۔ فیتہ میں ہاتھ کے جس دیکھا کو آدمی ایک تو اُٹھائی دوبارہ نظر اپنی نے مَیں

2	נֶאֱמַר	אָנָּה	אֵתָּה	הֲלֹךְ	וְנֹאמַר	אֵלָי	לְמַד	אֶת-	יְרוּשָׁלַם	לְרֵאוֹת	כְּמָה-
	اور-میں-نے-کہا	کہاں	تُو	جا-رہا-ہے	اور-کہا	مجھ-سے	ناپنے-کو	کو-	یروشلم	دیکھنے-کو	کتنی-
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0575</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4058</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H4100</a>	
	رְחֹבָה	וְכַמָּה	אֶרְכָּה:	اُس-کی-چوڑائی	اور-کتنی	اُس-کی-لمبائی					
	<a href="#">H7341</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0753</a>								

اور لمبائی کی شہر کہ ہوں چاہتا کرنا معلوم مَیں ہوں۔ رہا جا کرنے پیمائش کی یروشلم دیا، جواب نے اُس ہیں؟ رے جا کہاں آپ پوچھا، نے مَیں چاہئے۔ بونی کتنی چوڑائی

3	וְהִנֵּה	הַמְלָאָךְ	הַדָּבָר	בִּי	יֵצֵא	וּמִלְאָךְ	אֲחֵר	יֵצֵא	לְקִרְאָתוֹ:
	اور-دیکھو	فرشتہ	جو-بات-کر-رہا-تھا	مجھ-سے	نکلا	اور-فرشتہ	دوسرا	نکلا	ملنے-کو
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H0312</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H7125</a>	

آیا۔ ملنے سے اُس فرشتہ اور ایک میں راستے لیکن تھا۔ رہا کر بات سے مجھ تک اب جو ہوا روانہ فرشتہ وہ تب

4	וְנֹאמַר	אֵלָיו	רֵץ	דָּבָר	אֶל-	הַנְּעָר	הַלֵּוִי	לְאֶמֶר	פְּרָזוֹת	הַיָּשֵׁב	יְרוּשָׁלַם
	اور-کہا	اُس-سے	دوڑ	بات-کر-سے-	اُس-جوان	کہتے-ہوئے	بغیر-دیواروں-کے	بسے-گا	یروشلم		
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7323</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H1975</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H6519</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3389</a>
	מְרֹב	אֲדָם	וּבְהִנֵּה	בְּתוֹכָהּ:	کثرت-سے	اور-جانوروں-کی	اُس-میں				
	<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H8432</a>							

نہیں فصیل کی یروشلم آئندہ کہ گی ہو تعداد بڑی اتنی کی حیوان و انسان دے، بتا کو نوجوان والے کرنے پیمائش کر بھاگ کہا، نے فرشتہ دوسرے اس گی۔

5	וְנֹאנִי	אֶהְיֶה-	לָהּ	נֶאֱמַם-	יְהִיָּה	חֻמוֹת	אִשׁ	סָבִיב	וּלְקָבוֹד	אֶהְיֶה
	اور-میں	ہوں-گا-	اُس-کے-لیے	فرماتا-ہے-	یہوواہ	دیوار	آگ-کی	چاروں-طرف	اور-جلال-کے-لیے	ہوں-گا
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2346</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H1961</a>

بְּתוֹכָהּ: [فصلہ] [H8432](#)

گا۔ ہوں باعث کا جلال و عزت کی اُس کر رہ درمیان کے اُس مَیں گا، کروں حفاظت کی اُس کر بن چار دیواری کی آگ مَیں وقت اُس کہ بے فرماتا رب

6	הָיוּ	הָיוּ	וְנָסוּ	מֵאַרְצָן	צָפוֹן	נֶאֱמַם-	יְהִיָּה	כִּי	כְּאַרְבַּע	רוֹחוֹת
	افسوس	افسوس	اور-بھاگو	سرزمین-سے	شمال-کی	فرماتا-ہے-	یہوواہ	کیونکہ	چار	ہواؤں-کی-طرح
	<a href="#">H1945</a>	<a href="#">H1945</a>	<a href="#">H5127</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H7307</a>	
	הַשָּׁמַיִם	פְּרָשָׁתִי	אֶתְכֶם	נֶאֱמַם-	יְהִיָּה:	میں-نے-پھیلا یا	تمہیں	فرماتا-ہے-	یہوواہ	
	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H6566</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>					

تھا۔ دیا کر منتشر طرف چاروں تمہیں خود نے میں کیونکہ آؤ۔ بھاگ سے ملک شمالی اُٹھو! اُٹھو، ہے، فرماتا رب

7	הַיּוֹם	צִיּוֹן	הַמְּלִאֲתַי	יּוֹשֶׁבֶת	בֵּית-	בָּבֶל:	ס
	افسوس	صیون	بج-نکل	بسنے-والی	بیٹی-	بابل-کی	[فاصلہ]
	<a href="#">H1945</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H4422</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0894</a>	

نکلیں! بج سے وہاں ہیں ربتے میں بابل لوگ جتنے کے صیون آؤ۔ نکل سے وہاں کہ ہوں فرماتا میں اب لیکن

8	כִּי	כֹּה	אָמַרְ	יְהוָה	צְבָאוֹת	אַחַר	כְּבוֹד	שְׁלַחְנִי	אֶל-	הַגּוֹיִם	הַשְּׁלָלִים
	کیونکہ	یوں	کہتا-ہے	یہوواہ	صباؤت	بعد	جلال-کے	بھیجا-مجھے	کی-طرف-	قوموں	لوٹنے-والوں
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H0413</a>						
	אֲחֻכֶּם	כִּי	הַנְּעֵ	כָּחֶם	נָע	בְּכַת	עֵינֶי:				
	تمہیں	کیونکہ	چھونے-والا	تمہیں	چھوتا-ہے	کو-پتلی	اُس-کی-آنکھ-کی				
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H0892</a>					

کو پتلی کی آنکھ میری وہ چھیڑے تمہیں جو ہے، فرماتا لیا لوٹ تمہیں نے جنہوں میں بارے کے قوموں اُن وہ بھیجا مجھے نے جس الافواج رب کیونکہ گا۔ چھیڑے

9	כִּי	הַנְּבִי	מִנְיָ	אֶת-	יְדִי	עָלֵיהֶם	וְהִיוּ	שָׁלָל	לְעַבְדֵיהֶם
	کیونکہ	دیکھو-میں	بلاتا-ہوں	کو-	اپنا-ہاتھ	اُن-پر	اور-وہ-ہوں-گے	لوٹ	اپنے-غلاموں-کے-لیے
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H5650</a>			
	וַיִּדְעֻם	כִּי-	יְהוָה	צְבָאוֹת	שְׁלַחְנִי:	ס			
	اور-تم-جانو-گے	کہ-	یہوواہ	صباؤت	نے-بھیجا-مجھے	[فاصلہ]			
	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7971</a>					

ہے۔ بھیجا مجھے نے الافواج رب کہ گے لو جان تم تب گے۔ لیں لوٹ انہیں غلام اپنے کے اُن گا۔ اُٹھاؤں خلاف کے اُن ہاتھ اپنا میں کہ کرو یقین لئے اس

10	רָנִי	וְשִׁמְחִי	בֵּית-	צִיּוֹן	כִּי	הַנְּבִי-	בָּא	וְשַׁכְנִתִּי	בְּתוֹכָךְ
	گاؤ	اور-خوش-ہو	بیٹی-	صیون-کی	کیونکہ	دیکھو-میں-	آتا-ہوں	اور-سکونت-کروں-گا	تیرے-درمیان
	<a href="#">H8055</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8432</a>		
	נָא־	יְהוָה:							
	فرماتا-ہے-	یہوواہ							
	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>							

گا۔ کروں سکونت درمیان تیرے میں ہوں، رہا آ میں کیونکہ لگا! نعرے کے خوشی بیٹی، صیون اے ہے، فرماتا رب

11	וְנִלְוֹ	גוֹיִם	רַבִּים	אֶל-	יְהוָה	בִּינוֹם	הַתּוֹא	וְהָיוּ	לִי	לְעַם
	اور-میں-گی	قومیں	بہت	سے-	یہوواہ	میں-دن	اُس	اور-ہوں-گی	میرے-لیے	قوم
	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H1961</a>		
	וְשַׁכְנִתִּי	בְּתוֹכָךְ	וַיִּדְעֻת	כִּי-	יְהוָה	צְבָאוֹת	שְׁלַחְנִי	אֶלְיָךְ:		
	اور-سکونت-کروں-گا	تیرے-درمیان	اور-ٹو-جانے-گی	کہ-	یہوواہ	صباؤت	نے-بھیجا-مجھے	تیری-طرف		
	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7971</a>				

رب کہ گی لے جان ٹو تب گا۔ کروں سکونت درمیان تیرے خود میں گی۔ جائیں بن حصہ کا قوم میری کر ہو پیوست ساتھ میرے اقوام سی بہت دن اُس ہے۔ بھیجا پاس تیرے مجھے نے الافواج

12	וְנִחַל	יְהוָה	אֶת-	יְהוּדָה	חֶלְקוֹ	עַל	אֲדָמָת	הַקֹּדֶשׁ	וּבְחָר	עוֹד
	اور-میراث-پائے-گا	یہوواہ	کو-	یہوداہ	اپنا-حصہ	پر	سرزمین	کی-قدس	اور-چُنے-گا	پھر
	<a href="#">H5157</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H0127</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H5750</a>		
	בִּירוּשָׁלַם:									
	یروشلم-کو									
	<a href="#">H3389</a>									

گا۔ لے چن دوبارہ کو یروشلم وہ اور گا، بنے زمین موروثی کی رب یہوداہ میں ملک مُقَدَّس

ס	קִדְשׁוֹ:	מְמַעֲוֵן	יַעֲזֹר	כִּי	יְהוָה	מִפְּנֵי	בְּשָׂר	כָּל-	קֶס
[فاصلہ]	اپنی-قدس-کے	سے-مقام	وہ-جاگا	کیونکہ	یہوواہ-کے	سامنے-سے	جسم	ہر-	خاموش-ربو
	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H4583</a>	<a href="#">H5782</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2013</a>

| ہے۔ آیا نکل سے گاہ سکونت مُقَدَّس اپنی کر اُٹھ وہ کیونکہ جائیں، بو خاموش سامنے کے رب انسان تمام